

# چانسلر کا ضابطہ

نمبر:	جاری کردہ: 03/24/10	طلبہ	قسم
صفحہ 1 کا 3	اسکول اور ضلع کی قیادتی ٹیمیں	موضع	

## تبديلیوں کا خلاصہ

یہ ضابطہ چانسلر کے ضابطہ A-655 مورخ 3 دسمبر، 2007 کی جگہ لیتا ہے۔

### تبديلیاں:

- اسکول کے جامع تعلیمی منصوبے (CEP) کو تیار کرنے اور یہ یقینی بنانے کی ذمہ دار ہے کہ یہ اسکول پر مبنی بجٹ سے ہم آبنگ ہے۔ (صفحہ 1، حصہ IIA.1)
- SLTs کو چائے کے فیصلے کرنے کے لئے اتفاق رائے پر مبنی فیصلہ سازی کے عمل کو اپنے بنیادی ذریعے کے طور پر استعمال کرے۔ (صفحہ 7، حصہ VIII)
- پرنسپل SLT کے ساتھ مشاورت کے بعد، اسکول پر مبنی بجٹ تیار کرنے اور یہ یقینی بنانے کا ذمہ دار ہے کہ یہ CEP سے ہم آبنگ ہے۔ (صفحہ 1، حصہ II.A.2)
- CEP اور اسکول پر مبنی بجٹ میں ہم آبنگ کو یقینی بنانے کے لئے، SLT کا کوئی رکن (SLT کی جانب سے) فی سیسٹر دو بار تک تنظیمی ریورٹ کی گیلیکسی جدول کی درخواست کرسکتا ہے اور، جواب میں، پرنسپل 5 اسکولی دنوں کے اندر یہ ریورٹ فراہم کریں گے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی بھی مکمل تعلیم (DOE) کی ویب سائٹ سے گلیکسی بجٹ کی تفويضات، جو اس وقت شائع کی جاتی ہیں جب نئے مالی سال کیلئے تفويضات جاری کئے جاتے ہیں، اور تنظیمی ریورٹ کی گیلیکسی جدول حاصل کرسکتا ہے جسے بر تعلیمی سال کے آغاز میں شائع کیا جاتا ہے۔ (صفحہ 1، حصہ II.A.3)
- پرنسپل یہ طے کرتا ہے کہ اسکول پر مبنی بجٹ CEP سے ہم آبنگ ہے اور مہتمم کو اس کا تحریری جواز ارسال کرتا ہے۔ (صفحہ 1، حصہ II.A.5)
- پرنسپل کے علاوہ، SLT کے ارکان 10 اسکولی دنوں کے اندر اس جواز کا جواب تحریر میں دے سکتے ہیں اگر وہ اس بات پر اتفاق رائے کر لیں کہ وہ اسکول پر مبنی بجٹ کے CEP سے ہم آبنگ ہونے سے متعلق پرنسپل کے جواز سے اختلاف رکھتے ہیں اور یہ کہ پرنسپل کا مجوزہ بجٹ CEP میں پیش کرده ابداف اور پالیسیوں سے غیر موافق ہے۔ پھر مہتمم کو ایک فیصلہ کرنا لازمی ہوگا۔ (صفحہ 2، حصہ II.A.6)
- پرنسپل کے علاوہ، SLT کے ارکان پرنسپل کے ذریعے کئے گئے کسی فیصلے سے ایسی صورت میں، اگر SLT کے ارکان (پرنسپل کے علاوہ) اس بات پر اتفاق رائے کر لیں کہ فیصلہ اسکول کے موجودہ CEP میں مقرر کرده ابداف اور پالیسیوں سے غیر موافق ہے، تو وہ اجتماعی یا بائی اسکول مہتمم (community or school superintendent) کے پاس تحریری اعتراض جمع کروا کر اختلاف کرسکتے ہیں۔ مہتمم SLT اور پرنسپل کو ابتدائی شکایت کی وصولی سے دس (10) اسکولی دنوں کے اندر تحریری جواب دین گے جس میں تنازعے کے تعلق سے نظر ثانی شدہ معلومات کی تفصیل اور تنازعے پر مہتمم فیصلے کی بنیاد شامل ہوگی۔ (صفحہ 2، حصہ II.A.8)
- اگر CEP سے متعلق کسی سمجھوتے پر نہ پہنچ سکے، تو اسے چائے کے ضلعی قیادتی ٹیم (DLT) سے اعانت طلب کرے، اور اگر یہ عمل کامیاب نہیں رہتا ہے تو اجتماعی یا بائی اسکول مہتمم سے مدد طلب کرے۔ اجتماعی یا بائی اسکول مہتمم کو SLT میں اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کرنی چائے۔ اگر اس اعانت کے بعد کوئی سمجھوتہ نہ ہو، تو مہتمم CEP سے متعلق حتمی تعین کرتا ہے۔ البتہ، مہتمم

## چانسلر کا ضابطہ

قسم	طلبہ	جاری کردہ: 03/24/10	نمبر:	A-655
اسکول اور ضلع کی قیادتی ٹیمیں	صفحہ 3 کا 2	صفحہ		

صرف آخری حل کے طور پر ایسی صورت میں حتمی تعین کرتا ہے، اگر SLT کے ممبران کے درمیان اتفاق رائے پیدا کرنے کی مذکورہ بالا تمام کوششیں ناکام بوجاتی ہیں۔ (صفحہ 1، حصہ A.4، حصہ 7، حصہ II.A.4، نیز صفحہ 7، حصہ VIII)

- SLTs اور DLTs کو والدین کی شمولیت کے عملے یا مہتمموں کے ذریعے معاونت فراہم کی جاتی ہے۔ (صفحہ 6، حصہ VI، نیز صفحہ 7، حصہ VIII) CEP اور اسکول پر مبنی بحث کو محکمہ تعلیم (DOE) یا اسکول کے باضابطہ ویب سائٹ پر شائع کیا جانا چاہئے اور درخواست کرنے پر اس کی ایک نقل اسکول میں SLT بر ممبر کو فراہم کی جانی چاہئے (صفحہ 2، حصہ A.9، حصہ II.A.4)
- SLT کے اجلاس، جنہیں تعلیمی سال کے دوران مہینے میں ایک مرتبہ لازماً بونا چاہئے، اسکول یا محکمہ تعلیم کی عمارت میں منعقد بونے چاہئیں۔ (صفحہ 7، حصہ VII)
- SLT کے اجلاس کی اطلاع کھلے اجلاس کے قانون سے بم آبنگ شکل میں دی جانی چاہئے۔ (صفحہ 7، حصہ VII)
- اسکول میں پرنسپل یا نائب پرنسپل کے امیدوار کی تقری سے پیشتر SLT سے مشاورت کرنی چاہئے۔ (صفحہ 7، حصہ X.A)
- SLT، مہتمم کو پرنسپل کے ارکان کے ساتھ ایک مؤثر مشترک فیصلہ سازی کا تعلق پیدا کرنے کے ریکارڈ کی ایک سالانہ تشخیص فراہم کرے گی۔ (صفحہ 2، حصہ B.2)
- CEC کے والدینی ارکان (اور انتخابات کے سال میں، CEC کے امیدوار) اپنے بچے کے اسکول میں ایک SLT کے والدینی ارکان کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔ (صفحہ 3، حصہ i، حصہ III.C.b)
- اگر ضروری ہو، تو SLT اپنے ذیلی قوانین میں ترمیم کر سکتی ہے۔ (صفحہ 4، حصہ B.4)
- مہتمم اسکول کی تعمیر نو کے منصوبوں کے بارے میں SLT کے ساتھ مشاورت کرے گا۔ اسکول کو بند کرنے یا اسکول سے استفادے میں ابم تبدیلیاں کرنے کی تجویز سے متعلق مشترک عام سماعت میں شرکت کرے گی۔ (صفحہ 8، حصہ B.X)
- DLT صلیعی جامع تعلیمی منصوبہ (DCEP) تیار کرتی ہے، جس میں ضلع کے لئے چانسلر کے اباداف سے بم آبنگ سالانہ اباداف اور مقاصد شامل بوتے ہیں۔ (صفحہ 5، حصہ V.A)
- اسکول پر مبنی منصوبہ بندی اور مشترک فیصلہ سازی کے لئے مرکزی منصوبے میں DLTs کے اخذ کردہ انفرادی ضلعی 100.11 منصوبے نیز اس ضابطے میں دئے گئے طریقہ بائے کار شامل بوتے ہیں۔ دفتر برائے اصلاح اسکول بر ضلعی منصوبے کی نقول کو سنبھالنے اور انہیں مرکزی منصوبے کی صورت میں مرتب کرنے کا ذمہ دار ہے۔ (صفحہ 5، حصہ V.A)
- متعلقہ ڈیٹا کا جائزہ لینے اور بائی اسکول کی سطح پر طلبہ کی کارکردگی پر اثر انداز بونے والے مسائل کی نشاندہی کرنے کی غرض سے ایک شہر پیما بائی اسکول ذیلی کمیٹی بنائی جائے گی جو DLTs کو مابان بنیاد پر رپورٹ کرے گی۔ (صفحہ 6، حصہ C.V.)

## چانسلر کا ضابطہ

نمبر:	جاری کردہ:	طلبا	قسم
صفح	اسکول اور ضلع کی قیادتی ٹیمیں	موضوع	
3 کا 3	03/24/10		

- بر SLT کو چائے کے اپنے ارکان کی ایک فہرست اور اپنے موجودہ ذیلی قوانین کی ایک نقل DLT کو بر سال، 31 اکتوبر تک لازماً فرایم کرے۔ (صفح 8، حصہ XII.)
- بر DLT کو چائے کے ضلع کے تمام اسکولوں سے SLT کے ارکان کے ناموں کی ایک فہرست اور اس کے اپنے ارکان اور ذیلی قوانین کی ایک فہرست افسر اعلیٰ برائے شمولیتِ خاندان کو بر سال، 15 نومبر تک لازماً فرایم کرے۔ (صفح 8، حصہ XII.)
- والدین اپنے بچے کے اسکول کی SLT میں والدین کے خدمت کرنے سے متعلق انتخابات کے بارے میں شکوئے انتخابات کے بعد 7 اسکولی دنوں کے اندر داخل کر سکتے ہیں۔ (صفح 9، حصہ XIV.A., B.)
- والدین شکوئوں کے متعلق فیصلوں کے خلاف چانسلر (معرفت دفتر برائے قانونی خدمات) کو مہتمم کے فیصلے کی وصولی کے 10 دنوں کے اندر اپیل کر سکتے ہیں۔ (صفح 9، حصہ XIV. C.)

## اختصار

یہ ضابطہ نیویارک شہر کے بر پبلک اسکول میں اسکول قیادتی ٹیمیں (SLTs) اور بر اجتماعی اسکولی ضلع میں ضلعی قیادتی ٹیمیں (DLTs) کی تشکیل کو یقینی بناتا ہے۔ اس میں اسکول پر مبنی منصوبہ بندی اور مشترک فیصلہ سازی کے لئے مرکزی منصوبہ بھی شامل ہے۔

I.

نیویارک شہر کے بر پبلک اسکول میں ایک SLT بونی چائے۔ SLTs اسکول پر مبنی فیصلہ سازی کا ڈھانچہ تخلیق کرنے اور اسکلوں کی ایک بابی ثقافت کی راہ متعین کرنے میں ایک ابم کردار ادا کرتی ہیں۔ اسکول پر مبنی تعلیمی پالیسیاں تیار کرنے اور وسائل کے ان پالیسیوں کے نفاذ سے موافق بونے کو یقینی بنانے کا ایک ذریعہ ہوتی ہیں۔ ایک معاون انداز سے عمل کرتے ہوئے، SLTs کسی اسکول کے تعلیمی پروگراموں اور طالبانہ حصولیابیوں پر ان کے اثر کا اندازہ اور تشخیص کرنے میں اعانت کرتی ہیں۔

II.

### اسکول قیادتی ٹیم کے حقوق اور ذمہ داریاں

#### A. جامع تعلیمی منصوبہ اور اسکول پر مبنی بحث

1. ریاستی تعلیمی قانون حصہ 2590-h کے مطابق، SLT اسکول کا ایک سالانہ جامع تعلیمی منصوبہ (CEP) تیار کرنے کی ذمہ دار ہے جو بعد میں آنسے والے تعلیمی سال کے لئے اسکول پر مبنی بحث کے موافق ہو۔ اسکول پر مبنی بحث وہ مالیاتی حدود فراہم کرتا ہے جن میں رہ کر SLT طلباء اور اسکول کے تعلیمی پروگرام کی ضروریات پورا کرنے کے لئے ابداف اور مقاصد تیار کرے گی۔

2. CEP اسکول پر مبنی بحث کی تیاری کے ساتھ ساتھ مسلسل تیار کیا جائے گا تاکہ یہ بحث کے فیصلہ سازی کے عمل کے متعلق بتا سکے اور CEP اور بحث کی موافقت کی صورت پیدا کر سکے۔ پرنسپل، جو اسکول پر مبنی بحث کی تیاری کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس تیاری کے عمل کے دوران سے مشاورت کرے گا تاکہ CEP بحث کے ساتھ موافق ہو۔ پرنسپل اسکول پر مبنی بحث سے متعلق حتمی تعین کرتا ہے۔

3. CEP اور اسکول پر مبنی بحث میں ہم آبنگی کو یقینی بنانے کے لئے، SLT کا کوئی بھی رکن (SLT کی جانب سے) فی سیمیسٹر دو بار تک تنظیمی رپورٹ کی گیلیکسی جدول بنام "سرکاری / جائزہ" (جس میں ملازمت کی شناخت اور راہدارانہ معلومات حذف کردی جائیں گی) کی درخواست کر سکتا ہے اور، جواب میں، پرنسپل 5 اسکولی دنوں کے اندر یہ رپورٹ فراہم کریں گے۔ اس کے علاوہ SLT کا کوئی بھی رکن محاکمة تعلیم (DOE) کی ویب سائٹ سے گلیکسی بحث کی تفویضات، جو اس وقت شائع کی جاتی ہیں جب نئے مالی سال کیلئے تفویضات جاری کئے جاتے ہیں، اور تنظیمی رپورٹ کی گیلیکسی جدول حاصل کر سکتا ہے جسے بر تعلیمی سال کے آغاز میں شائع کیا جاتا ہے۔

4. SLT کے لیے اتفاق رائے پر مبنی فیصلہ سازی کا استعمال کرنا لازمی ہے اور اگر CEP پر اتفاق رائے نہ بو سکے تو اعانت حاصل کرنا کازمی ہے۔ اگر یہ اسکول پر مبنی بحث سے موافق CEP تیار کرنے سے قاصر ہو، تو SLT کو ضلع قیادتی ٹیم (DLT) سے اعانت حاصل کرنی چاہئے، اور اگر یہ کامیاب نہیں رہتا ہے تو، اسے اجتماعی یا بائی اسکول مہتمم سے مدد حاصل کرنی چاہئے۔ اجتماعی یا بائی اسکول مہتمم کو SLT میں اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ اگر مدد کی ان شکلؤں کو طلب اور حاصل کرنے کے بعد بھی CEP پر اتفاق رائے نہ ہو، تو مہتمم CEP کی تیاری سے متعلق

تحتمی فیصلہ کرے گا۔ البته، مہتمم صرف آخری حل کے طور پر ایسی صورت میں حتمی فیصلہ کرے گا، اگر SLT کے ممبران کے درمیان اتفاق رائے پیدا کرنے کی مذکورہ بالا تمام کوششیں ناکام بوجاتی ہیں۔

5. پرنسپل کو چاہئے کہ اسکول پر مبنی مجوزہ بحث کو اس تحریری جواز کے ساتھ، کہ یہ CEP سے موافق ہے، اجتماعی یا بائی اسکول مہتمم کے پاس منظوری کے لئے جمع کروائے۔ حتمی صورت اختیار کرنے کے لئے، بحث کو اجتماعی یا بائی اسکول مہتمم کے ذریعے منظور شدہ بونا چاہئے، جنہیں لازماً یہ تصدیق کرنی بوجی ہے کہ بحث CEP سے موافق ہے۔ مہتمم تحریری جواز کے جمع کروانے کی صورت اور انداز کے بارے میں تجویز دیتا ہے۔ (ایک تجویز کردہ فارم منسلک نمبر 1 کے طور پر منسلک ہے)

6. اگر SLT کے ارکان (پرنسپل کے علاوہ) اس بات سے اتفاق کرلیں کہ اسکول پر مبنی بحث CEP کے موافق ہے، تو SLT کو پرنسپل کے جواز کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تابم، اگر SLT کے ارکان (پرنسپل کے علاوہ) یہ اتفاق رائے کرلیں کہ وہ اسکول پر مبنی بحث CEP کے موافق ہونے سے متعلق پرنسپل کے جواز سے اختلاف رکھتے ہیں، اور یہ کہ پرنسپل کا تجویز کردہ بحث CEP میں پیش کردہ ابداف اور پالیسیوں سے غیر موافق ہے، تو SLT دس (10) اسکولی دنوں کے اندر اس جواز کا تحریری جواب اجتماعی یا بائی اسکول مہتمم کے پاس جمع کروا سکتی ہے۔ (ایک تجویز کردہ فارم منسلک نمبر 1 کے طور پر منسلک ہے)

7. اگر SLT کے ارکان (پرنسپل کے علاوہ) ایک جواب جمع کروا دیں، تو اجتماعی یا بائی اسکول مہتمم SLT کو دس (10) اسکولی دنوں کے اندر تحریری جواب دیں گے۔ مہتمم کے جواب میں اسکول پر مبنی بحث CEP کے موافق ہونے سے متعلق تنازعے کے بارے میں ایک تعین، نظر ثانی شدہ معلومات کی تفصیل اور فیصلے کی بنیاد شامل بوجی۔ (ایک تجویز کردہ فارم منسلک نمبر 2 کے طور پر منسلک ہے)۔ اس فیصلے کی موصول ہونے کے بعد، SLT اور پرنسپل کو چاہئے کہ مہتمم کے جواب میں دی گئی بدایات کے مطابق اسکول پر مبنی بحث اور CEP پر فوری طور پر لازماً نظر ثانی کریں۔

8. پرنسپل کے علاوہ، SLT کے ارکان پرنسپل کے ذریعے کئے گئے کسی کسی فیصلے سے ایسی صورت میں، اگر SLT کے ارکان (پرنسپل کے علاوہ) اس بات پر اتفاق رائے کرلیں کہ فیصلہ اسکول کے موجودہ CEP میں مقرر کردہ ابداف اور پالیسیوں سے غیر موافق ہے، تو وہ اجتماعی یا بائی اسکول مہتمم کے پاس تحریری اعتراض جمع کروا کر اختلاف کر سکتے ہیں۔ مہتمم SLT اور پرنسپل کو ابتدائی شکایت کی وصولی سے دس (10) اسکولی دنوں کے اندر تحریری جواب دیں گے جس میں تنازعے کے تعلق سے نظر ثانی شدہ معلومات کی تفصیل اور مہتمم فیصلے کی بنیاد شامل بوجی۔

9. حتمی CEP اور اسکول پر مبنی بحث کو محکمہ تعلیم (DOE) یا اسکول کے باضابطہ ویب سائٹ پر شائع کیا جانا چاہئے اور درخواست کرنے پر اس کی ایک نقل اسکول میں SLT کے بر ممبر کو فراہم کی جانی چاہئے۔

B. دیگر ذمہ داریاں

1. اسکول کے عملے کو ملازم رکھنے یا نکالنے کی ذمہ دار نہیں ہے۔ تابم، چانسلر کے ضابطے C-30 کے مطابق اسکول کے پرنسپل اور نائب پرنسپل کے امیدوار کی تقری سے قبل SLT کے ساتھ مشاورت کی جانی لازمی ہے۔

2. اجتماعی ضلع یا بائی اسکول مہتمم کو تعلیمی سال کے دوران SLT ارکان کے ساتھ پرنسپل کے ایک مؤثر مشترک فیصلہ سازی کا تعلق پیدا کرنے کے ریکارڈ کے بارے میں ایک سالانہ تشخیص فراہم کرے گی۔ (ایک تجویز کردہ تشخیصی فارم منسلک نمبر 3 کے طور پر منسلک ہے)

III

## (ٹیم کی) ساخت

## A. ٹیم کا حجم

تمام SLTs میں کم از کم دس ارکان اور زیادہ سے زیادہ 17 ارکان بونے چاہئیں۔ ٹیم کا سائز معین کرتے وقت بجٹ کی تفویض کو زیر غور لانا لازمی ہے۔

B. لازمی ارکان

SLT کے تین لازمی ارکان میں صرف اسکول کا پرنسپل، انجمن والدین / والدین اساتذہ کی انجمن (PA/PTA) کا صدر<sup>1</sup>، اور اساتذہ کے متعدد وفاق (UFT) کے حلقوں کا قائد، یا ان کے مامور شدہ اشخاص شامل ہوتے ہیں۔

## C. غیر لازمی ارکان

1. لازمی ارکان کے علاوہ، SLT میں والدین اور اسکول کا عملہ (تدریسی اور / یا غیر تدریسی) لازماً شامل بونا چاہئے۔ SLT میں والدین اور عملے کی تعداد یکساں بونی چاہئے۔
- a. والدین اور عملے کا انتخاب:

اسکول برادری کے تمام ارکان کو شمولیت کا موقع حاصل بونے کو یقینی بنانے کے لئے اور SLT میں وسیع شرکت کی حوصلہ افزائی کے لئے، والدین اور عملے کا انتخاب ان کے ابne رائے دبنہ گروپوں کے ذریعے بر رائے دبنہ گروپ کے طے کردہ منصاف اور غیر جانبدار انداز سے بونا چاہئے اور معقول پیشگی اطلاع دینے کے ساتھ، تمام انتخابات کی وسیع طور پر تشویح بونی چاہئے۔ انتخابات تمام رائے دبنہ گروپوں (مثلاً PA/PTA, CSA, UFT, DC 37) کے لئے کھلا بونا چاہئے اور لازماً ٹیم کے ذیلی قوانین میں دی گئی مدت کی حدود کے مطابق منعقد بونے چاہئیں۔

PA کے لئے اس کے SLT والدینی ارکان کے انتخاب کے لئے کم از کم دس تقویمی دنوں کی پیشگی اطلاع مطلوب ہے۔ ایک PTA کی صورت میں، صرف اسکول کی انجمن کے والدین ارکان بی اپنی SLT کے والدینی ارکان کا انتخاب کرنے کے لئے ووٹ دے سکتے ہیں۔ PA/PTAs کو ترغیب دی جاتی ہے کہ SLT کے غیر لازمی ارکان کی معیاد کو یکے بعد دیگرے ترتیب دیں۔ SLT کے انتخابات کو موسم بہار میں PA/PTA کے انتخابات کے بعد لازماً بو جانا چاہئے (چانسلر کا ضابطہ A-660 دیکھیں)

## b. ابیلت

## i. والدین

اسکول میں سے والدین<sup>2</sup> SLT میں کام کرنے کے لئے اسکول کی PA/PTA کے ذریعے منتخب بونے کے ابل ہیں۔

والدین ان اسکولوں کی SLT میں والدینی رکن کے طور پر کام نہیں کر سکتے جن میں وہ ملازم ہوں، لیکن وہ دوسرے اسکولوں میں خدمات انجام دے سکتے ہیں جہاں ان کا کوئی

<sup>1</sup> معاون صدور کی صورت میں، PA/PTA کے باقی افسران طے کرتے ہیں کہ کون سا معاون صدر SLT کے لازمی رکن کے طور پر کام کرے گا۔

<sup>2</sup> والدین کی تعریف میں والدین (پیدائشی یا سوتیلے)، قانونی طور پر مقرر شدہ سر پرست، پوروش کرنے والے (فوسٹر) والدین یا بچے کے ساتھ والدینی رشتہ رکھنے والا شخص آتا ہے۔ والدینی رشتہ والے شخص سے مراد ایسا شخص ہوتا ہے جس نے بچے کی نگہداشت سنہال لی ہو، کیونکہ بچے کے والدین یا سرپرست موجود نہ ہوں، چاہے یہ، دیگر باتوں کے ساتھ، وفات، قید، ذہنی بیماری، بچے کو چھوڑ دینے، یا ریاست سے باہر رینے کے باعث ہو۔

### بچہ پڑھ ربابو۔

والدین ایک سے زائد SLT میں خدمات انجام دینے کے لئے منتخب کئے جا سکتے ہیں، جب تک وہ اس ضابطے میں دئیے بوئے مطلوبیات کو پورا کرتے ہوں۔

CEC کے والدینی ارکان اور (انتخابات کے سال میں، CEC کے امیدوار) اپنے بچے کے اسکول میں SLT کے والدینی ارکان کے طور پر خدمات انجام دے سکتے ہیں۔

### .ii عمل

والدین ربط دیندگان اس اسکول میں، جہاں وہ ملازم ہوں، کسی حیثیت سے بھی SLT کے ارکان کے طور پر کام نہیں کر سکتے۔ تابم والدین ربط دیندگان کو ان اسکولوں میں، جہاں وہ ملازم ہوں، اجلاس میں مشاہد یا پیش کار کے طور پر شرکت کرنے کے لئے مدعو کیا جا سکتا ہے۔ انہیں SLT کی ذیلی کمیٹیوں میں خدمت کرنے کے لئے بھی کہا جا سکتا ہے۔

اسکول کا دیگر عمل اس اسکول (اسکولوں) میں، جہاں پر وہ ملازم ہوں، والدینی رکن کے طور پر خدمت نہیں کر سکتے۔ تابم، ربط دیندہ والدین اور اسکول کے عملے کے دیگر ارکان دیگر اسکولوں میں، جن میں ان کے بچے پڑھ رہے ہوں، والدینی رکن کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔

ضلعی دفتر کا عمل اس ضلعے میں، جس میں وہ ملازم ہوں، کسی بھی SLT میں والدینی رکن کے طور پر خدمت نہیں کر سکتے۔

اسکولوں کی امدادی تنظیموں (SSOs) کا عمل کسی بھی ایسے اسکول کی SLT میں والدینی رکن کے طور پر خدمت نہیں کر سکتے جو SSO سے خدمات خریدتا ہو۔

### 2. طلباء اور برادری پر مشتمل تنظیمیں

SLTs میں طلباء (بائی اسکول میں کم از کم 2 طلباء مطلوب ہوتے ہیں) اور برادری پر مبنی تنظیموں (CBOs) کے نمائندگان بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ تعین کرتے وقت کہ آیا کسی ٹیم میں والدین اور عملے کی تعداد مساوی ہے، طلباء اور SLT کے CBO ارکان کو شمار نہیں کیا جاتا (دیکھیں حصہ -III.C.1)

### D. چیئر پرسن / معاون چیئر پرسن

1. ٹیم کی تشکیل کے بعد، اسے اپنے ارکان میں سے چیئر پرسن یا معاون چیئر پرسن کا لازماً انتخاب کرنا چاہئے۔ ضروری نہیں کہ چیئر پرسن یا معاون چیئر پرسن لازمی ارکان ہوں۔ SLTs غیر لازمی ارکان میں سے چیئر پرسن یا معاون چیئر پرسن کو منتخب کر سکتے ہیں، تاکہ SLTs میں شرکت زیادہ سے زیادہ ہو۔

2. چیئر پرسن اجلاس ترتیب دینے، یہ یقینی بنائے کہ ٹیم کے ارکان کے پاس اپنی منصوبہ بندی میں رینمائی کے لئے ضروری معلومات موجود ہیں، اور اسکول کے لئے ابم تعلیمی مسائل پر توجہ مرکوز کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ چیئر پرسن یہ یقینی بناتا ہے کہ ٹیم کے تمام ارکان کی آراء سنی جائیں۔

### E. سیکریٹری

بر SLT کو چاہئے کہ سیکریٹری کے طور پر خدمت انجام دینے کے لئے ایک رکن کو منتخب کرے۔ سیکریٹری SLT کے اجلاس کی اطلاعات ارسال کرنے اور SLT کے اجلاسوں کی روئیاد رکھنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اسکول میں ایسی روئیاد کی دیکھ بھال کی جانی چاہئے اور PTA/PA کو ایک نقل مہیا کرنی

چائبے۔ اسکول کا پرنسپل اسکول کے دفتری عملے کے ایک رکن کو سیکریٹری کی اعانت کے لئے مامور کر سکتا ہے۔

#### F. اجتماعی اور شہر پیما تعلیمی کونسلیں

اجتماعی تعلیمی کونسل (CEC) کے ارکان SLTs کے ساتھ اپنے متعلقہ برادری کے اسکولی ضلعوں میں ایک رابطے کے طور پر کام کرتے ہیں۔ بائی اسکولوں کی شہر پیما کونسل (CCHS) کے ارکان پورے نظام کے بائی اسکولوں میں اسی حیثیت میں کام کرتے ہیں، جیسا کہ شہر پیما کونسل برائے خاص تعلیم (CCSE) ضلع 75 کے اسکولوں کے ضمن میں کام کرتی ہے۔ رابطے کے عمل میں مبصرین اور / یا پیش کاروں کے طور پر اجلاسوں میں شرکت کرنا، اور SLT کے ارکان کی جانب سے مدعو کئے جانے پر SLT کی کمیشیون اور ذیلی کمیشیون میں شرکت کرنا شامل ہوتا ہے۔

#### IV. ایک اسکول قیادتی ٹیم کی تشكیل کرنا

##### A. ایک نیا اسکول میں:

ایک SLT کو تشكیل دینے سے پیشتر اسکول کو چائبے کے پہلے ایک PA/PTA کی تشكیل کرے۔ A-660 یہ کام کرنے کے طریق عمل کو بیان کرتا ہے۔ PA/PTA کے تشكیل پا جانے کے بعد اسکول کو چائبے کے مندرجہ ذیل طریق کار پر عمل کرے۔

##### B. ایک موجودہ PA/PTA کے حامل اسکول میں:

PA/PTA کا صدر یا مامور شدہ معاون صدر، پرنسپل اور UFT کے حلقات کے قائد یا ان کے مامور افراد کو چائبے کے ذیلی قوانین کا مسودہ تیار کرنے کے لئے مل کر کام کریں۔ اس کے بعد بر رائے دیندہ گروپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ SLT کے ذیلی قوانین کے مطابق اپنے نمائندہ ارکان کو ووٹ کے ذریعے یا ویسے بی م منتخب<sup>3</sup> کریں۔

1. ابتدائی اسکولوں، مڈل / اثرمیڈیٹ اسکولوں، ضلع 75، میں ٹیم کے لازمی ارکان اس عمل کے ذریعے تکنیکی اعانت اور رینمائی کے لئے محکم تعلیم کے والدینی شمولیت کے عملے اور صدور کی کونسلوں، نیز اجتماعی ضلعوں کے مہتممین سے رابطہ کر سکتے ہیں (حسب ذیل حصہ VI دیکھیں)۔

2. بائی اسکولوں میں ٹیم کے لازمی ارکان تکنیکی اعانت اور رینمائی کے لئے اپنے محکم تعلیم کے والدینی شمولیت کے عملے اور برو بائی اسکولوں کے صدور کی کونسل، نیز بائی اسکولوں کے مہتممین سے رابطہ کر سکتے ہیں (اس میں حصہ VI دیکھیں)۔

SLT کے وقوع پذیر بونے کے بعد، اسے چائبے کے اپنے ذیلی قوانین کا جائزہ لے اور ان پر عملدرآمد کرے اور اگر ضروری ہو، تو ان ذیلی قوانین میں ترمیم کرے۔

وہ اسکول جو کئی مقامات پر بین انکی SLT ایک بوتی ہے لیکن تمام مقامات کی ضروریات کی تشخیص کرنے اور SLT کو اپنے نتائج کے اطلاع دینے کے لئے SLT ذیلی کمیشیون بنا سکتی ہے۔

#### ضلعی قیادتی ٹیمیں

#### V.

##### A. حقوق اور ذمہ داریاں

کمشنر تعلیم کے ضوابط کے حصہ 100.11 کے مطابق، بر اجتماعی مہتمم کو چائبے کے اسکول پر مبنی منصوبہ بندی اور فیصلہ سازی میں اساتذہ، والدین اور منظومین کی شرکت کے لئے لازماً ایک ضلعی منصوبہ تیار کرے۔ مہتمم ذمہ دار ہے کہ ضلعی منصوبے کو "ایک کمیٹی کے ساتھ اشتراک عمل سے تیار

<sup>3</sup> والدین اور عملے کے ارکان کا انتخاب لازماً رائے دی کے ذریعے کرنا چائبے؛ دوسرے ارکان کو ویسے بی م منتخب کیا جا سکتا ہے۔ T&I-12855 (Urdu) Chancellor's Regulation A-655

کرے جو ضلعی انتظامی سودا کاری تنظیموں کے منتخب کردہ منظمین، مجموعی سودا کاری تنظیم (تنظیموں) کے منتخب کردہ اساتذہ اور اسکول سے متعلقہ تنظیموں کے منتخب کردہ والدین (جو ضلع یا ضلعے کے اساتذہ یا منظمین کی کسی نمائندہ مجموعی سودا کاری تنظیم کے ملازم نہ ہوں) پر مشتمل ہو۔" نیو یارک شہر میں، یہ کمیٹی ضلعی قیادتی ٹیم (DLT) بوتی ہے۔

بر اجتماعی اسکولی ضلع میں لازماً ایک DLT بنائی جانی چاہئے جو جغرافیائی طور پر اس اجتماعی اسکولی ضلع کے اندر واقع ابتدائی، مڈل اور بائی اسکولوں کے نمائندوں پر مشتمل ہو۔ DLTs اسکول پر مبنی منصوبہ بندی اور مشترک فیصلہ سازی میں والدین اور عملے کی شرکت کے لئے ضلعی سطح کے منصوبے سے متعلقہ ضوابطِ کمشنر کے حصہ 100.11 کے مطلوبات کو پورا کرتی ہیں۔

DLT ضلعی جامع تعلیمی منصوبے (DCEP) کو تیار کرے گی۔ جس میں ضلعے کے اور چانسلر کے ابداف سے بم آبنگ سالانہ مقاصد اور ابداف شامل ہوتے ہیں اور جس میں ضلعی 100.11 منصوبے کے مندرجہ ذیل چھ زمروں کو بھی شامل کرتا ہے:

1. تعلیمی مسائل جو تعییری سطح پر مشترک منصوبہ بندی سے مشروط ہوں؛
2. SLT میں تمام فریقوں کی موقع شمولیت کا انداز اور حد؛
3. ذرائع اور معیار جن سے تمام فریق طلبہ کی کامیابیوں کا اندازہ لگائیں گے؛
4. ذرائع جن سے تمام فریق ان فیصلوں کے لئے قابل مؤخذہ ٹھہرائے جائیں گے، جن کو کرنے میں وہ شریک رہے ہوں؛
5. SLTs میں تنازعات کے حل کا عمل؛ اور
6. منصوبہ بندی اور فیصلہ سازی میں والدین کی شمولیت کے لئے ریاستی اور وفاقی مطلوبات کے پورا کرنے کا انداز۔

DLTs اپنے ضلعوں کو معاونت، ربنمائی، تکنیکی اعانت، اور اختلافات کے حل بھی فراہم کریں گی۔ دفتر برائے اصلاح اسکول ضلعی جامع تعلیمی منصوبوں (DCEPs) کی تیاری میں مہتمم اور DLT کو ربنمائی اور تکنیکی اعانت فراہم کرے گا۔

اس کے علاوہ، DLTs کو ضلع میں مشترک فیصلہ سازی کی اثر پذیری کا اندازہ لگانے کے لئے ضلعی 100.11 منصوبے کا ششماہی جائزہ لینا لازمی ہے۔ DLT کو چاہئے کہ ششماہی جائزہ فارم (منسلک A) کو مکمل کرکے دفتر برائے شمولیت و حمایت میں بر جفت عددی سال کی 15 جنوہی تک لازماً جمع کروا دے۔ اس ششماہی جائزے کا نتیجہ نیو یارک شہر محکمہ تعلیم کے پاس بر جفت عددی سال کی یکم فروری تک لازماً جمع کروا دینا چاہئے۔

#### B. ساخت

DLT کے مطلوبہ ارکان یہ ہیں:

- برادری مہتمم (یا نامزد کردہ شخص)
- جغرافیائی طور پر ضلع کے اندر واقع بائی اسکولوں کے ذمہ دار مہتمم (مہتممین) (یا ان کے مامور شدہ اشخاص)
- CSA کا نمائندہ
- UFT کا نمائندہ
- DC 37 کا نمائندہ
- ضلعی صدور کونسل کا صدر (یا اس کا مامور کردہ شخص)

- برو بائی اسکولوں کے صدور کونسل کا صدر (یا اس کا مامور کردہ شخص)

- زمرہ I ضلعی مشاورتی کونسل برائے والدین کا چیئر پرسن یا (اس کا مامور کردہ شخص)

برادری پر مشتمل تنظیمیں (CBOs) ، ضلعی CEP کے صدر یا اس کے مامور شدہ شخص، اور بائی اسکولوں کی شہر پیما کونسل کے ایک رکن کو بھی DLT میں شامل کیا جا سکتا ہے جس کا بچ جغرافیائی طور پر ضلع کے اندر واقع بائی اسکول میں پڑھتا ہو۔<sup>4</sup>

C. شہر پیما بائی اسکول ذیلی کمیٹی

اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کہ بائی اسکولوں اور ان کے طلباء کی ضروریات اور ان پر اثر ڈالنے والے خصوصی مسائل کی نمائندگی DLT کے مذاکرات میں پوری طرح سے ہے، بائی اسکولوں کے نمائندوں کی ایک ضلع پیما ذیلی کمیٹی بنائی جائے گی اور جس کا اجلاس متعلقہ ڈیٹا کا جائزہ لینے اور بائی اسکول کی سطح پر طلباء کی کارکردگی پر اثر ڈالنے والے مسائل کی نشاندہی کرنے کے لئے مہینے میں ایک مرتبہ بوا کرے گا۔ ذیلی کمیٹی کے ارکان (جو رابط کاروں کے طور پر کام کریں گے)، بائی اسکولوں کی ذیلی کمیٹی کے اجلاسوں کے نتیجہ کی اطلاع DLT کے مبانی اجلاس میں ایجنڈے کی ایک مستقل شق کے طور پر دیا کریں گے۔ DLTs بائی اسکول کی سطح کے حلقوں کے نمائندوں کو شامل رکھنا جاری رکھیں گے اور ذیلی کمیٹی کے رابط کاروں کے ذریعے اٹھائے گئے مسائل کے بارے میں ضلعے کی مجموعی حکمت عملی کی منصوبہ سازی اور مسائل کے حل کے جزو کے طور پر تبادلہ خیال کریں گے۔

ضلع پیما بائی اسکول ذیلی کمیٹی کے مطلوبہ ارکان یہ ہیں:

- بائی اسکولوں کے مہتمم (یا ان کے مامور کردہ شخص)

- ضلع 79 کا مہتمم (یا اس کا مامور کردہ شخص)

- CSA کا بائی اسکولوں کا نمائندہ

- UFT کا بائی اسکولوں کا نمائندہ

- DC 37 کا بائی اسکولوں کا نمائندہ

- بر بائی اسکول کے صدر کی کونسل سے والدین کا ایک نمائندہ

## VI. اسکول اور ضلع کی قیادتی ٹیموں کی معاونت

بر برادری اسکول ضلع، برو، اور ضلع 75 کے پاس دفتر برائے شمولیت و حمایت (OFEA) کے عملے کا ایک مامور کردہ رکن ہوگا، جو SLTs اور DLTs کی اعانت کے لئے پیشہ ورانہ ترقی اور تکنیکی معاونت سمیت جامع خدمات مہیا کرے گا۔ مزید برآں، مہتممین DLTs کی تشکیل میں OFEA کی اعانت طلب کر سکتے ہیں۔

جیسے مناسب ہوا، OFEA کا مامور شدہ عملہ ٹیم کی تمام ساختوں کو ان کے فرائض اور ذمہ داریوں کی انجام دہی میں اعانت کے لئے سہولت کاروں کے طور پر کام کرے گا۔ وہ اس ضابطے میں بیان کردہ ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لئے اپنی قابلیت استعمال کرنے کی خاطر اپنی متعلقہ ضلعی اور اسکول ٹیموں کی قربت میں رہ کر کام کریں گے۔

OFEA کا مامور شدہ عملہ شمولیت DLTs کی معاونت اور اعانت کے لئے برادری مہتمم کے ساتھ اشتراکِ عمل سے کام کرے گا۔ وہ اپنے ضلعوں میں SLTs اور DLTs کو باقاعدہ تربیتی نشستیں مہیا کرے گا۔

<sup>4</sup> ضلع 75 کے لئے بھی ایک DLT مطلوب ہے۔ ضلع 75 کی DLT کے مہتمم، ایک CSA اور UFT کے نمائندے، اور ضلع 75 کی صدور کونسل کے صدر (یا مامور کردہ شخص) پر مشتمل ہوتی ہے۔ CBOs اور شہر پیما کونسل برائے خاص تعلیم کے صدر (یا مامور کردہ شخص) کو بھی ضلع 75 کی DLT میں شامل کیا جا سکتا ہے۔

OFEA کا مامور شدہ عملاء شمولیت بائی اسکولوں میں SLTs کو باقاعدہ تربیتی نشستیں مہیا کرے گا۔ تربیت کے کلیدی پہلوؤں میں شامل ہیں، لیکن ان تک محدود نہیں ہیں:

- فرائض اور ذمہ داریاں؛
- ٹیم کے طریق کار؛
- اسکول پیما ضروریات کا اندازہ لگانا؛
- اسکول کے بجٹ کو سمجھنا؛ اور
- خاندانوں اور برادریوں کو دفتر برائے اصلاح اسکول کی معیت میں، ایک جامع تعلیمی منصوبے کے جائزے اور تیاری میں شامل کرنا

اس کے علاوہ DLTs دفتر برائے شمولیت و حمایت کو برسال یکم دسمبر سے شروع ہونے والی SLT اور DLT کی سرگرمیوں کی سہ ماہی حیثیت کی رپورٹ فراہم کرنے کی خاطر PAs/PTAs سے معلومات جمع کریں گے۔ دفتر برائے شمولیت و حمایت رپورٹ کا ایک خاک فراہم کرے گا۔

دفتر برائے اصلاح اسکول جامع تعلیمی منصوبوں (CEPs) کی تیاری اور زمرہ I پروگرام کے مطلوبات کا جواب دینے کے بارے میں SLTs کو تربیت فراہم کرے گا۔

#### اجلاسوں کا نظام الوقات بنانا .VII

SLTs کو ایک تعلیمی سال کے دوران مہینے میں کم از کم ایک بار اپنا اجلاس ضرور بلانا چاہئے۔ اجلاس کو اسکول یا محکمہ تعلیم کی عمارت میں اور والدین کے لئے ایک باسهولت وقت پر (دن یا شام کو) منعقد ہونا چاہئے۔ لازمی ارکان یا ان کے مامور شدہ سے SLT کے تمام اجلاسوں میں شرکت کی توقع کی جاتی ہے۔ اجلاس کی اطلاعات کو اجلاس عام کے قانون سے بم آنگ فارم پر فراہم کرنا چاہئے۔

#### فیصلہ سازی / مسائل کو سلجھانा .VIII

SLTs کو چاہئے کہ اپنے فیصلے کرنے کے لئے اتفاق رائے پر مبنی فیصلہ سازی کے عمل کو بنیادی ذریعے کے طور پر استعمال کرے۔ ٹیموں کو چاہئے کہ باہمی مسائل کو سلجھانے اور حل تلاش کرنے اور، جب ضروری ہو، تو اختلافات کو مؤثر طور پر نہانے میں شمولیت کے لئے طریقے تیار کریں۔

جب ایک ٹیم نے ایک مسئلے کو حل کرنے کے لئے بر کوشش کر لی ہو، اور اس کے ارکان کسی سمجھوتے پر نہ پہنچ سکیں، تو ٹیم کو DLT سے مدد حاصل کرنی چاہئے اور اگر یہ ناکام رہتا ہے تو اس کو اجتماعی یا بائی اسکول مہتمم سے مدد حاصل کرنی چاہئے۔ اجتماعی یا بائی اسکول مہتمم کو SLT میں اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ اگر DLT اور مہتمم سے مدد کی ان شکلؤں کو طلب اور حاصل کرنے کے بعد بھی CEP کے سلسلے میں اتفاق رائے پر پہنچنے میں ناکام ہو تو مہتمم CEP پر حتمی فیصلہ کرے گا۔ البته، مہتمم صرف آخری حل کے طور پر ایسی صورت میں حتیٰ فیصلہ کرے گا، اگر SLT کے ممبران کے درمیان اتفاق رائے پیدا کرنے کی مذکورہ بالا تمام کوششیں ناکام بوجاتی ہیں۔

جہاں ٹیم کے ارکان کو معلومات حاصل کرنے میں مشکل دریش ہو، یا وہ اسکول پرنسپل کے ساتھ مشاورت سے متعلق مسائل کو حل کرنے کے لئے اعانت حاصل کرنا چاہتے ہوں، تو وہ DLT یا مہتمم یا مامور شدہ OFEA عملاء شمولیت سے اعانت طلب کر سکتے ہیں۔

#### معاوذه / ریکارڈ رکھنا .IX

A. \$300 کی سالانہ اجرت حاصل کرنے کا ابل ہونے کے لئے SLT ارکان، بشمول طلباء اور CBO نمائندگان کو SLT میں 30 گھنٹوں کی خدمت پوری کرنی بوجی اور برسال محکمہ تعلیم (DOE) کی پیش کردہ CEP اور بجٹ سے متعلق امور کی باضابطہ تربیت میں شرکت کرنا لازمی بوجی۔ ٹیم کے وہ ارکان جو تربیت تو

حاصل کرتے ہیں لیکن 30 گھنٹوں سے کم کام کرتے ہیں، وہ حسبِ شرح کی بنیاد پر اجرت کی درخواست کر سکتے ہیں۔

1. ٹیم کے ارکان یہ یقینی بنانے کے ذمہ دار ہیں کہ کام کے گھنٹوں کے بارے میں تحریر کئے گئے تمام ریکارڈ کارروائی کے لئے چیئر پرسن کے پاس جمع کروائے جائیں۔
2. انفرادی ارکان کو انتخاب کرنا بوگا آیا سالانہ اجرات کو قبول کرنا یہ یا اس سے دست بردار بو کر رقوم کو اسکول کے دیگر مقاصد میں استعمال ہونے کے لئے عطیہ کرنا یہ۔ بو سکتا ہے ٹیم کے ذیلی قوانین کسی خصوصی انتخاب کے بارے میں بدایت نہ کریں۔
- B. بر اجلاس کی حاضری اور روئیاد کا ریکارڈ لازماً رکھنا چاہئے۔

#### X. اسکول پر مبنی دوسرے موجودات کے ساتھ SLT کا تعلق

اسکول کی جائزہ اور منصوبہ بندی کی انجمان کے طور پر اپنے کردار میں، SLT اسکول کی مرکزی ربط دیندہ ٹیم بتوی ہے۔ اور اسے چاہئے کہ مختلف اسکول کمیٹیوں کے درمیان رابطے کی سہولت پیدا کرے۔

##### A. چانسلر کے ضابط C-30 کی سطح I کی کمیٹی

1. اسکول میں پرنسپل یا نائب پرنسپل کے امیدوار کی تقریب سے پیشتر SLT کے تمام ارکان سے مشاورت کی جائے گی۔
2. SLT کے ارکان چانسلر کے ضابط C-30 میں ترتیب کردہ مطلوبات سے مشروط طور پر، C-30 کی سطح I کی کمیٹی میں کام کرنے کے ابل ہوتے ہیں۔ تابم، اگر SLT کے والدین C-30 کی سطح I کی کمیٹی میں کام کرنے کے لئے دستیاب نہ ہوں، تو C-30 کی سطح I کی کمیٹی کا چیئر پرسن اسکول کی PA/PTA کے افسران کو کام کرنے کا موقع پیش کرے گا۔
- B. اسکول کی تعمیر نو کے منصوبے

مہتمم اسکول کی تعمیر نو کے منصوبوں کے بارے میں SLT کے ساتھ مشاورت کرے گا۔ اسکول کو بند کرنے یا اسکول سے استفادے میں کوئی ابم تبدیلی کرنے کی تمام تجاویز کے ضمن میں، SLT اسکول میں منعقدہ مشترک عوامی سماعت میں شرکت کرے گی۔ چانسلر کا ضابط A-190 NCLB/SED دیکھیں۔ بدايات بدرجہ تاکید کے تحت اصلاح کے لئے نشان دبی کردہ (SINI) اور (SURR) اسکولوں کی تعمیر نو کے مطلوبات کے بارے میں مزید معلومات کے لئے براہ مہربانی دفتر برائے اسکولی اصلاح سے مہربانی دفتر برائے پورث فولیو فروغ دبی سے [OSI@schools.nyc.gov](mailto:OSI@schools.nyc.gov) پر رابطہ کریں۔ اسکولوں کے بتدریج بند ہونے کے بارے میں براہ مہربانی دفتر برائے [portfolio@schools.nyc.gov](mailto:portfolio@schools.nyc.gov) پر رابطہ کریں۔

##### C. عمارت میں دیگر اسکول

ان عمارتیں میں جہاں پر متعدد اسکول ہوتے ہیں، SLTs کو ترغیب دی جاتی ہے کہ بابمی دلچسپی کے مسائل پر تبادلہ خیال کرنے کے لئے سال میں کم از کم دو مرتبہ اجلاس بلاہیں۔

#### XI. والدین کے ساتھ مشاورت

کوئی بچہ پیچھے نہ چھوٹے کے مطلوبات کو پورا کرنے کے لئے، اسکول اور ضلعی قیادتی ٹیمیں وفاقی قابل باز ادائیگی رقوم کے استعمال اور پروگراموں (مثلاً زمرہ I) کی منصوبہ بندی کے ضمن میں والدین کے نمائندوں سے مشاورت کے ایک ذریعے کے طور پر کام کریں گی۔ اسکول اور ضلعی قیادتی ٹیموں کو اس بات کی تصدیق کے لئے فائل پر ایک تحریر رکھنی چاہئے کہ مطلوبہ مشاورت ہو چکی ہے۔

<sup>5</sup> مزید معلومات کے لئے چانسلر کا ضابط C-30 دیکھیں۔

<sup>6</sup> براہ مہربانی محکمہ تعلیم کی زمرہ I کی والدین کی شمولیت کی راہ عمل کی یادداشت سے رجوع کریں جس کی اشاعت دفتر برائے شمولیت و حمایت T&I-12855 (Urdu) Chancellor's Regulation A-655

## XII. ذیلی قوانین

بر SLT اور DLT کو چائے کہ ذمہ داریوں کے بارے میں واضح بدایات فرابم کرنے کی خاطر ذیلی قوانین اور کام کرنے کے لئے راہ عمل تیار کرے۔ تمام ذیلی قوانین کو اس ضابطے کے ساتھ بم آبنگ بونا چائے۔ ذیلی قوانین کا ایک خاک منسلک 4 کے طور پر منسلک ہے۔ ذیلی قوانین میں ٹیم کی رکنیت اور عمل کرنے کے بارے میں کلیدی فیصلے شامل بونے چائیں۔ تمام ذیلی قوانین میں مندرجہ ذیل پہلوؤں پر لازمًا توجہ دی جانی چائے:

- ٹیم کے ارکان اور چیئر پرسن کے فرائض؛
- ٹیم کی بناؤث؛
- کورم؛
- والدین اور عملے کے ارکان کے انتخاب کا طریقہ
- چیئر پرسن کے ارکان کے انتخاب کا طریقہ
- جہاں قابل اطلاق ہو، CBOs اور طبا ارکان کو منتخب کرنے کا طریقہ
- مدتِ معینہ کی طوال اور مدتِ معینہ کی حدود؛
- چیئر پرسن اور ارکان کو نکالنے کا طریقہ
- فیصلے (مثلاً اتفاق رائے یا اکثریت کا قانون) کرنے کا طریقہ اور اگر ٹیم کو اختلافات کے کسی حل کی ضرورت ہو، تو زیر عمل لائے جانے والے طریقہ بائے کار؛
- آسامیوں کو پُر کرنا؛
- اجلاس کے دوران مبصرین کا کردار؛
- اجلاس میں کون کون بول سکتا ہے؛
- ایجنڈے کیسے ترتیب دئیے جاتے ہیں؛
- یہ کہ ٹیم کو تعليمی سال کے دوران کم از کم دس مرتبہ اجلاس بلانے چائیں؛
- اجلاس کی تعداد جن میں غیر حاضر بوا جا سکتا ہے، اور طے شدہ تعداد سے زیادہ اجلاس میں غیر حاضر بونے کے نتائج؛
- آیا غیر لازمی والدین ارکان کی معیاد کو یکے بعد دیگرے کرنا چائے؛ اور
- یہ کہ ایک سیکریٹری بونا چائے۔

بو سکتا ہے SLTs اور DLTs سے ان کے ذیلی قوانین کے ذریعے یہ مطلوب ہو کہ وہ اسکول کی دیگر کمیشیوں، جیسے والدین کی انجمن / والدین اساتذہ کی انجمن اور زمرہ I کی کمیٹی کے ساتھ ملاقات کریں اور رابطہ رکھیں تاکہ یہ یقینی بنائیں کہ تمام اسکول پیما کمیشیاں CEP میں بیان کیے گئے یکسان ابداف کے لئے کام کر رہی ہیں۔

ٹیم کو چائے کہ ذیلی قوانین پر سال میں کم از کم دو مرتبہ نظر ثانی کرے۔ بر SLT کو چائے کہ DLT کو اپنے ارکان کی ایک فہرست اور اپنے موجودہ ذیلی قوانین کی ایک نقل بر سال 31 اکتوبر تک لازمًا فرایم کرے۔ DLT کو چائے کہ ضلعے کے تمام اسکولوں کی SLT کے ارکان کے ناموں کی ایک فہرست اور خود اپنے ارکان اور ذیلی قوانین کی ایک فہرست افسر اعلیٰ خاندانی شمولیت (CFEO) کو بر سال

کے ذریعے کی جاتی ہے۔

15 نومبر تک لازماً فرایم کرے۔ اگر SLT اپنے ذیلی قوانین میں کوئی تبدیلیاں کرے اور اس کی رکنیت میں کوئی تبدیلی واقع ہو، تو تبدیلیوں کی اطلاع DLT کو ارسال کی جانی چاہئے، جو پھر یہ معلومات CFEO کو ارسال کرے گی۔

### XIII. اسکول پر مبنی منصوبہ بندی اور مشترک منصوبہ سازی کے لئے مرکزی منصوبہ

اسکول پر مبنی منصوبہ بندی اور مشترک منصوبہ سازی کے لئے مرکزی منصوبہ میں ضلعوں کے انفرادی منصوبے شامل ہوتے ہیں جو DLTs نے کمشنر تعلیم کے ضوابط کے حصہ 100.11، نیز اس ضابطے میں پیش کردہ طریقہ بائی کار کے مطابق اخذ کئے ہیں۔ افسر برائے اصلاح اسکول بر ضلعے کے منصوبے کی نقول کو سنبھالنے اور ان کو مرکزی منصوبے میں مرتب کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ضلع پیما کمیٹی جو اسکول پر مبنی منصوبے اور مشترک فیصلے سازی کے لئے مرکزی منصوبے کو منظور کرتی ہے، ایک اعلیٰ UFT نمائندے، ایک اعلیٰ CSA نمائندے، ایک اعلیٰ DC 37 نمائندے، اور چانسلر کے مامور کردہ نمائندوں کو شامل کرے گی۔

### XIV. شکایات

A. والدین اپنے بچے کے اسکول کی SLT میں خدمات انجام دینے کے لیے والدین کے انتخاب کے بارے میں ایک تحریری شکایت دائیر کر سکتے ہیں۔

B. ایسی شکایات کو انتخاب کے سات (7) اسکولی دنوں کے اندر مناسب مہتمم<sup>7</sup> کے پاس لازماً دائیر کر دینا چاہئے۔ شکایت کی وصولی کے سات (7) اسکولی دنوں کے اندر مہتمم ایک فیصلہ کر دے گا۔ اگر جاری تحقیقات یا دیگر حکام کو حوالے کی بنا پر سات (7) اسکولی دنوں کے اندر ایک فیصلہ نہ ہو پائے، تو مہتمم کو چاہئے کہ سات (7) اسکولی دنوں کے وقفے کے اندر تاخیر کی وجہ کیوضاحت کرتے ہوئے ایک جواب دے، اور اس میں حتمی فیصلے کی ایک متوقع تاریخ شامل کرے۔ جہاں پر عارضی انسدادی اقدامات مناسب ہوں، انہیں جواب میں شامل کرنا چاہئے۔ ایک اعلیٰ چانسلر کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے۔

C. والدین مہتمم کے فیصلے کے خلاف چانسلر کے پاس اپیل کر سکتے ہیں۔ اس اپیل کو مہتمم کے فیصلے کی وصولی کے دس (10) اسکولی دنوں کے اندر لازماً دائیر کر دینا چاہئے۔ اپیل کو اس پتے پر ارسال کرنا چاہئے:

Chancellor c/o The Office of Legal Services, 52 Chambers Street, Room 308, New York, NY 10007  
چانسلر اپیل کی وصولی کے چودہ (14) اسکولی دنوں کے اندر ایک فیصلہ کر دے گا۔ اگر جاری تحقیقات یا دیگر حکام کو حوالے کی بنا پر چودہ (14) اسکولی دنوں کے اندر ایک فیصلہ نہ ہو پائے، تو چانسلر کو چاہئے کہ سات دنوں کے وقفے کے اندر تاخیر کی وجہ کیوضاحت کرتے ہوئے ایک جواب دے، اور اس میں حتمی فیصلے کی ایک متوقع تاریخ شامل کرے۔ جہاں پر عارضی انسدادی اقدامات مناسب ہوں، انہیں جواب میں شامل کرنا چاہئے۔ اپیل پر چانسلر کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے۔

### XV. رینمائی اور اعانت

دفتر برائے شمولیت و حمایت رینمائی فرایم کرے گا اور اس ضابطے کے نفاذ سے متعلق استفسارات کا جواب دے گا۔

دفتر برائے اصلاح اسکول، اسکول اور ضلع کی سطح کے جامع تعلیمی منصوبوں، ضلعی 100.11 منصوبوں، زمرہ I کے پروگرام کے مطلوبیات اور وفاقي اور ریاستی اسکول اور ضلع کی اصلاحات کے طریقہ بائی کار کے فروع اور جائزے سے متعلق رینمائی اور تکمیلی رینمائی فرایم کرے گا۔ (حصہ VI دیکھیں)

دفتر برائے شمولیت و حمایت بھی دیگر مرکزی دفاتر کے ساتھ مشاورت سے اس ضابطے میں اضافے کے لئے

<sup>7</sup> برادری ضلعی اسکولوں کے بارے میں شکایات اجتماعی مہتمم کے پاس دائیر کی جاتی ہیں؛ بائی اسکولوں کے بارے میں شکایات بائی اسکول مہتمم کے پاس دائیر کی جاتی ہیں؛ ضلع 75 کے اسکولوں کے بارے میں شکایات ضلع 75 کے مہتمم کے پاس دائیر کی جاتی ہیں۔  
T&I-12855 (Urdu) Chancellor's Regulation A-655

3/24/10

12 کا 12

اسکول اور ضلع کی قیادتی ٹیمیں A-655

راہ عمل جاری کر سکتا ہے۔

اس ضابطے سے متعلق تمام عام استفسارات کو اس پتے پر ارسال کرنا چاہئے:

فیکس:

212-374-0076

*Office for Family Engagement and Advocacy*

N.Y.C. Department of Education

49 Chambers Street – Room 503

New York, NY 10007

ٹیلیفون

212-374-2323

## اسکول پر مبنی بحث اور جامع تعلیمی پروگرام (CEP) کا خلاصہ

اسکول پر مبنی بحث اور جامع تعلیمی پروگرام (CEP) کا خلاصہ CEP کے اب ابداف کی وضاحت کرتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسکول پر مبنی بحث CEP کے ساتھ ہم آننگ ہے۔ اس میں وہ اب ابداف اور CEP میں فرایم کیے جانے والے پروگرام اور بحث کی تفویض درج فہرست ہے جو ان ابداف اور پروگراموں کی اعانت کرتے ہیں اور ان سے مربوط ہیں۔

### I. CEP کا مجموعی خلاصہ (آنے والے تعلیمی سال میں اسکول میں نافذ کرنے کے لیے تعلیمی ابداف، پروگرام، آغاز کاریاں)

اس حصے کو، اس جگہ میں آئے والے تعلیمی سال کے لیے CEP کا خاکہ فرایم کرنا چاہیئے؛ پھر ذیل کے خانوں میں CEP کے بر بدف یا پروگرام کو برخانے میں علیحدہ علیحدہ درج بونا چاہیئے۔

### II. بحث کا خلاصہ

آنے والے تعلیمی سال کے لیے اسکول پر مبنی مجموعی بحث کی عکاسی کرنے والی ایک ورک شیٹ فرایم کی جانی چاہیئے (چاہے اس جگہ میں یا اس کے ساتھ منسلک)؛ اس کے بعد، ذیل کے خانوں میں، CEP کے بر بدف یا پروگرام کے بحث کی تفویض (سرمائے کے وسیلے) کو فرایم کیا جانا چاہیئے۔

### III. اسکول پر مبنی بحث کی CEP کے ساتھ ہم آننگی

اس حصے میں، پرنسپل کو ان خانوں کا استعمال کر کے یہ ظاہر کرنا چاہیئے آیا CEP کا بر بدف / پروگرام آئے والے تعلیمی سال کے بحث کی تفویض سے ہم آننگ ہے۔

بحث کی تفویض (سرمائے)

CEP کا بر بدف یا پروگرام


بحث کی تفویض ( سرمایہ )

CEP ہدف یا پروگرام


داخل کرنے والا فرد:

( دستخط )

( جلی حروف میں نام )

کا پرنسپل \_\_\_\_\_

تاریخ \_\_\_\_\_

پرنسپل کے اسکول پر مبنی بحث کے ساتھ CEP کی بہ آپنگی کے جواز پر اسکول کی قیادتی ٹیم کا جواب (اگر ضرورت ہو تو اضافی صفحات منسلک کریں):

دالخليٰ کرنے والا فرد:

( تاریخ ) ( جلی حروف میں نام ) ( دستخط )

---

---

---

---

---

### اسکولی قیادتی ٹیم (SLT) کی سالانہ تشخیص کا فارم

سال:	<input type="checkbox"/> ES <input type="checkbox"/> MS <input type="checkbox"/> HS	سطح:	اسکول کا نام:
باضابطے _____ منتخب		والدینی نمائندہ:	
<input type="checkbox"/> 0-1 <input type="checkbox"/> 1-3 <input type="checkbox"/> 4+ SLT میں خدمات انجام دیئے گئے سالوں کی تعداد:		تاریخ:	

### اسکولی قیادتی ٹیم (SLT) کا پرنسپل کی تشخیص کا فارم

سال:	<input type="checkbox"/> ES <input type="checkbox"/> MS <input type="checkbox"/> HS	سطح:	اسکول کا نام:
باضابطے _____ منتخب		والدینی نمائندہ:	
<input type="checkbox"/> 0-1 <input type="checkbox"/> 1-3 <input type="checkbox"/> 4+ SLT میں خدمات انجام دیئے گئے سالوں کی تعداد:		تاریخ:	

برائے مہریانی SLT کے ایک ممبر کے طور پر اس سال کے دوران اپنے تجربے کی بنیاد پر پرنسپل کی اسکولی قیادتی ٹیم کے ساتھ ایک مؤثر مشترک فیصلہ سازی کے رشتے کو فروغ دینے کی کارکردگی کی درجہ بندی کریں۔

\_\_\_\_\_ بہترین ————— بہتری کی ضرورت بے ————— تسلی بخش ————— اچھی ————— بہت اچھی ————— تبصرات:

میں نے اس دستاویز کے مشمولات کو پڑھ اور سمجھ لیا ہے۔ میں تصدیق کرتا ہوں کہ میرے جوابات میرے ذاتی تجربے پر مبنی ہیں۔

دستخط / تاریخ

والدین / عملے کے فرد کا نام

یہ تشخیص محکمہ تعلیم کے ذریعے موصول کی جا چکی ہے۔

دستخط / تاریخ

جلی حروف میں نام